



سوال

شادی کی شروط کی فہرست نامی چیز کی مشروعیت کا حکم کیا ہے؟ اور کیا یہ مہر کی جگہ لے سکتی ہے، اور اس فہرست میں کیا لکھنا ضروری ہے، کیا فلیٹ اور گھر میں جو چیز ہوتی ہے وہ شامل ہوگی یا کچھ اور بھی؟ برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکے اس کا جواب دیں کیونکہ میری شادی اس فہرست کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے اس فہرست کی وجہ سے شادی نہ بھی ہو سکے؟

جواب

الحمد للہ

نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے :

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی و خوشی دے دو النساء (4).

یہاں نخلۃ کا معنی فرض ہے

اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"جاؤ جا کر کچھ ڈھونڈ کر لاؤ چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی ہو"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5121) صحیح مسلم حدیث نمبر (1425).

عرف اور عادات کے اعتبار سے لوگ مہر میں مختلف ہیں کچھ لوگ تو مہر نقدی کی شکل میں مقرر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سونے کے زلیوارت کی شکل میں جیتے ہیں، اور کچھ لوگ مہر میں تین اشیاء جیتے ہیں: سونا، اور نقدی جو بعد میں دی جاتی ہے، اور سامان کی فہرست، اس میں کوئی حرج نہیں

چنانچہ یہ فہرست مہر کا جزء شمار ہوتی ہے جو بیوی کی ملکیت ہے، اور اس کی تحدید خاوند اور ولی کے درمیان اتفاق سے ہو سکتی ہے، وہ اس پر بھی منتقل ہو سکتے ہیں کہ سارا موجود سامان لکھ دیں اور وہ بیوی کی ملکیت ہوگی، اور علیحدگی کی صورت میں بیوی واپس لے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والی اور خاوند سامان کا کچھ حصہ لکھنے پر منتقل ہو جائیں تو اس کے علاوہ باقی سامان کی بیوی مالک نہیں بنے گی

اور اس فہرست میں لڑکی کے ولی کو سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مہر تھوڑا رکھنا اور اس میں آسانی پیدا کرنی مستحب ہے؛ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

"سب سے بہتر مہر آسانی والا ہے"

اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر (3279) میں صحیح قرار دیا ہے

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :



"سب سے بہتر نکاح آسان نکاح ہے"

اسے ابن حبان نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر (3300) میں اسے صحیح قرار دیا ہے

مزید آپ سوال نمبر (10525) اور (12572) کے جوابات کا ضرور مطالعہ کریں

واللہ اعلم

اسلام سوال و جواب

102507